

بلا معاوضہ سکول کا کھانا

اگر آپ کا بچہ فُل ٹائم تعلیم میں ہو اور آپ مندرجہ ذیل بینیفٹ میں سے ایک وصول کر رہے ہوں تو آپ کا بچہ سکول میں بلا معاوضہ کھانے کا مستحق ہو گا:

- انکم سپورٹ
- آمدنی کی بنیاد پر جاب سیکرز الاؤنس
- آمدنی سے متعلقہ ایمپلائمنٹ اینڈ سپورٹ الاؤنس
- ریاستی پنشن کا ضمانتی عنصر (گارنٹی ایلیمنٹ آف سٹیٹ پنشن کریڈٹ)
- ورکنگ ٹیکس کریڈٹ کے بغیر چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اور ان لینڈ ریوینیو، (انکم ٹیکس کا شعبہ) کی طرف سے تعین کردہ آمدنی 16,190 پونڈ سے زیادہ نہ ہو (یہ سالانہ بنیادوں پر تبدیل ہو سکتی ہے)
- امیگریشن اینڈ اسائلٹ ایکٹ 1999 کے حصہ 1 وی کے تحت مالی مدد
- یونیورسل کریڈٹ - آپ کی ایک سال کی گھریلو آمدنی 7,400 پونڈ سے کم ہو (ٹیکس کے بعد اور اس میں آپ کو ملنے والے کوئی بینیفٹ شامل نہیں)

بلا معاوضہ سکول کے کھانے کے لئے درخواست دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ہماری اس ویب سائٹ پر آن لائن فارم بھر کر کریں: www.barnsley.gov.uk

آپ کو درخواست دینے کے لئے کیا معلومات درکار ہوں گی

نام اور پتہ

نیشنل انشورنس نمبر یا این اے ایس ایس (NASS) نمبر

ہمیں اس معلومات کا استعمال کرنے کے لئے رضامندی

امیگریشن اور پناہ یعنی اسائلٹ کے ایکٹ 1999 کے حصہ 6 کے تحت معاونت

والدین کو ہوم آفس کی طرف سے ایک امدادی خط وصول ہوتا ہے جس میں امیگریشن کی حیثیت اور نیشنل اسائلٹ سپورٹ سروس (NASS) کے حوالہ نمبر کی تصدیق کی جاتی ہے۔

میں نیشنل اسائلٹ سپورٹ سروس (NASS) کا حوالہ نمبر کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

این اے ایس ایس نمبر ہوم آفس (HO) کی طرف سے پناہ یعنی اسائلٹ کے امدادی خط میں دیا جائے گا۔ یہ نمبر خط کے دائیں طرف پتے کے نیچے درج ہوتا ہے، اور این اے ایس ایس حوالہ نمبر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے 9 بندسے ہوتے ہیں اور عام طور پر مندرجہ ذیل صورت میں دکھایا جاتا ہے:

.YY / MM / 12345

بلا معاوضہ سکول کے کھانے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے 01226 787787 پر کال کریں